




## FORM OF ORDER SHEET

Court of \_\_\_\_\_

Case No.- 1161/2022

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	27/07/2022	<p>The appeal of Mr. Khairul Bashar presented today by Mr. Mir Zaman Safi Advocate. It is fixed for preliminary hearing before touring Single Bench at Swat on <u>9-9-22</u>. Notices be issued to appellant and his counsel for the date fixed.</p> <p style="text-align: right;">By the order of Chairman    REGISTRAR</p>
	09.09.2022	<p>Learned counsel for the appellant present. Preliminary arguments heard.</p> <p>Points raised need consideration, hence the appeal in hand is admitted to regular hearing subject to all legal and valid objections. The appellant is directed to deposit security and process fee within 10 days. Out district respondent be summoned through TCS, the expenses of which be deposited by the appellant within three days. To come up for submission of written reply/comments on 07.11.2022 before the S.B at Camp Court Swat.</p> <p style="text-align: right;">   (Salah-Ud-Din)  Member (J)  Camp Court Swat</p>

Rs-100/-  
Appellant Deposited  
Security & Process Fee  
  
14/9/22

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL**  
**PESHAWAR**

APPEAL NO. 1161 /2022

**KHAIR UL BASHAR**

**VS**

**POLICE DEPTT:**

**INDEX**

<b>S.NO.</b>	<b>DOCUMENTS</b>	<b>ANNEXURE</b>	<b>PAGE</b>
1	Memo of appeal	.....	1- 3.
2	Affidavit	.....	4.
3	FIR	<b>A</b>	5.
4	Impugned order dt: 30.12.2021	<b>B</b>	6.
5	Compromise deed	<b>C</b>	7.
6	Departmental appeal	<b>D</b>	8.
7	Rejection	<b>E</b>	9.
8	Revision petition	<b>F</b>	10.
9	Rejection order	<b>G</b>	11.
10	Wakalat nama	.....	12.

*Khair-ul-Bashar*  
*0345-2856053*

**APPELLANT**

**THROUGH:**

  
**MIR ZAMAN SAFI**  
**ADVOCATE**

Office: Room No. 6-E, 5<sup>th</sup> Floor,  
Rahim Medical Centre, Hashtnagri,  
Peshawar.  
Cell: 0333-9991564

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL**  
**PESHAWAR**

APPEAL NO \_\_\_\_\_/2021

Mr. Khair-Ul-Bashar, Ex-Constable No. 1657,  
Police Lines, Dir Upper .....APPELLANT

VERSUS

- 1- The Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
- 2- The Regional Police Officer Malakand Region at Saidu Sharif, Swat.
- 3- The District Police Officer, District Dir Upper.

.....RESPONDENTS

**APPEAL UNDER SECTION-4 OF THE KHYBER**  
**PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL ACT-1974 AGAINST**  
**THE IMPUGNED ORDER DATED 30.12.2021 WHEREBY**  
**MAJOR PENALTY OF DISMISSAL FROM SERVICE HAS**  
**BEEN IMPOSED ON THE APPELLANT AND AGAINST THE**  
**IMPUGNED APPELLATE ORDERS DATED 30.03.2022 AND**  
**29.06.2022 WHEREBY DEPARTMENTAL APPEAL AND**  
**REVISION PETITION OF THE APPELLANT HAS BEEN**  
**REJECTED ON NO GOOD GROUNDS**

**PRAYER:**

That on acceptance of this appeal the impugned orders dated 30.12.2021, 30.03.2022 and 29.06.2022 may very kindly be set aside and the appellant be re-instated into service with all back benefits. Any other remedy which this August Tribunal deems fit that may also be awarded in favor of the appellant.

**R/SHEWETH:**

**ON FACTS:**

*Brief facts giving rise to the present appeal are as under:-*

- 1- That appellant was the employee of respondent Department and performed his duties in the respondent Department as Constable for quite considerable period quiet efficiently and up to the entire satisfaction of his superiors.
- 2- That during service the appellant was falsely implicated in criminal case FIR No. 403, dated 03.11.2021, under section 452/418/419/420 PPC at Police Station Wari Dir. Copy of FIR is attached as annexure.....A.
- 3- That the local police arrested the appellant and sent to the judicial lock up. That the appellant was behind the bar and at the meantime the respondent

Department conducted departmental inquiry in the matter without associating the appellant in the said inquiry. That on the conclusion of said inquiry the appellant has been dismissed vide impugned order dated 30.12.2021 without waiting to the outcome of trial in the aforementioned criminal case. Copies of the impugned order is attached as annexure.....**B.**

4- That the appellant moved bail application before competent Court and as such the appellant released on bail on the basis of compromise. Copy of the compromise deed is attached as annexure.....**C.**

5- That the appellant feeling aggrieved from the impugned order dated 30.12.2021 preferred departmental appeal before the appellate authority but the same was rejected vide order dated 30.03.2022 against which the appellant preferred revision petition to the respondent No.1 but the same was also rejected on no good grounds. Copies of the departmental appeal, rejection order dated 30.03.2022, revision petition & rejection order dated 29.06.2022 are attached as annexure.....**D, E, F & G.**

6- That appellant feeling aggrieved and having no other remedy but to file the instant service appeal on the following grounds amongst others.

**GROUND:**

A- That impugned orders dated 30.12.2021, 30.03.2022 & 29.06.2022 issued by the respondents are against the law, facts, norms of natural justice and material on record, hence not tenable and liable to be set aside.

B- That the appellant has not been treated in accordance with law and rules by the respondent department on the subject noted above and as such violated Article 4 and 25 of the Constitution Of Islamic Republic of Pakistan.

C- That no charge sheet and statement of allegation has been issued to the appellant before issuing the impugned order dated 30.12.2021.

D- That no regular inquiry has been conducted before issuing the impugned order dated 30.12.2021 which is necessary as per judgment of Apex Court before taking punitive action against the civil servants.

E- That no final show cause notice has been served upon the appellant before issuing the impugned order dated 30.12.2021.

F- That no chance of personal hearing/defense has been provided to the appellant before issuing the impugned order dated 30.12.2021.

G- That no chance of cross examination has been provided to the appellant which is necessary as per rule and judgment of the Apex Court, therefore the impugned order dated 30.12.2021 is not tenable in the eye of law, hence the same is liable to be set aside.

H- That the appellant cannot be declared guilty by the respondent department unless declared guilty by the court of law and thus issuing the impugned order dated 30.12.2021 is not tenable and liable to be set aside.


I- That the appellant seeks permission to advance any other ground and proof at the time of hearing.

It is therefore, most humbly prayed that the appeal of the appellant may very kindly be accepted as prayed for.

**Dated: 25.07.2022**

APPELLANT  
  
KHAIR UL BASHAR

THROUGH:

  
MIR ZAMAN SAFI  
ADVOCATE

**CERTIFICATE:**

It is certified that no other earlier appeal was filed between the parties.

  
DEPONENT

**LIST OF BOOKS:**

- 1- CONSTITUTION OF PAKISTAN, 1973
- 2- SERVICES LAWS BOOKS
- 3- ANY OTHER CASE LAW AS PER NEED

### ابتدائی اطلاعی رپورٹ

A-5

ابتدائی اطلاع ثبت جرم قابل دست اندازی پولیس رپورٹ شدہ زبردستہ ۱۵۴ مجموعہ ضابطہ فوجداری

ضلع	تاریخ	نوٹری 47
دیوبند		
تاریخ و وقت رپورٹ	403	
وقت وقوعہ ۱۱/۱۱/۱۱ وقت ۰۵:۰۵ بج		
نام و سکونت اطلاع دہندہ	وقت ۰۹:۳۰ بج	
مختصر کیفیت جرم (معدونہ) حال لگے کچھ ایسا ہے		
جائے وقوعہ فاصلہ تھانہ سے اور سمت		
نام و سکونت ملزم		
کارروائی جو تفتیش مختصر کی گئی تاکہ اطلاع دہندہ کو یقین ہو کہ اس شخص پر کوئی ایسا جرم نہیں ہو سکتا جو اس کے بارے میں اطلاع دہندہ نے بتایا ہے		
تھانہ سے روانگی کی تاریخ و وقت		

### ابتدائی اطلاع نیچے درج کی گئی ہے

لوگت صدر پنج آب غورنی سد اللہ کھانہ باجاولی  
 ۱۵ دست گیل سر ۱۱ ۳۶۱ وصول ہو کر ذیل ہے۔ کمرت انہ اچار ۲۰ خانہ آڈی ارا اے دی کے دیوہ گنگا اور  
 سخی خان زمین دار میں ملے گئے ہیں انہ سبھیوں کو وقت شب داخل ہو کر سوار خان اور دیگر کشتہ دار  
 خانوں کے گھر کے کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ انہ اپنی جان بچانے کے واسطے حاکم عدالت کی پولیس خانے کے چوکھڑے مارا کہ  
 باغ صاحب کی رائے کہ میں ایک شخص جو خود کو گھوڑے سے لڑائی میں لگتا ہے (انہ نام) حیدر اللہ ولد نذیر علی خان جسے  
 شہزادہ نے ہلا کر پھینکا ہے۔ انہ لوگت صدر پنج آؤ گئی ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور شخص جو ان کے ساتھ تھے  
 یہ تھے یہاں لگا نوم نیل ہمارے گھر کے جو نائل ۱۳۷۳ ۴۵۴۶ ۳۴۱۱ ۰۳۴۵ ۲۸۵۶ ۰۳۴۵ ۵۵ کمال ۲۲  
 جو کہ وہاں (حیدر اللہ) ولد نذیر علی خان کے گھر میں تھے اور ان کے ساتھ ایک اور شخص جو ان کے ساتھ تھے  
 اس کو BISP کے تحت پر لیا گیا اور ان کے ساتھ ایک اور شخص جو ان کے ساتھ تھے۔ انہ  
 انہ ۳۰ سزا پر لے گئے ہیں ۲۲ سزا پر لے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور شخص جو ان کے ساتھ تھے  
 نذیر علی خان کے ساتھ ایک اور شخص جو ان کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ ایک اور شخص جو ان کے ساتھ تھے  
 کے قریب لگا ہوا گاؤں میں جو کہ ان کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ ایک اور شخص جو ان کے ساتھ تھے  
 دو گئے ہوئے گاؤں میں لگا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ایک اور شخص جو ان کے ساتھ تھے  
 بہادر علی خان کے ساتھ ایک اور شخص جو ان کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ ایک اور شخص جو ان کے ساتھ تھے  
 پر پورا تم کویت میں لے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور شخص جو ان کے ساتھ تھے  
 لکھن میں پانچ کی جوئے نذیر علی خان کے ساتھ ایک اور شخص جو ان کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ ایک اور شخص جو ان کے ساتھ تھے  
 کا چشمہ وہ چے میں ہوا اور ان کے ساتھ ایک اور شخص جو ان کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ ایک اور شخص جو ان کے ساتھ تھے  
 پڑا ۳۰ سزا پر لے گئے اور ان کے ساتھ ایک اور شخص جو ان کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ ایک اور شخص جو ان کے ساتھ تھے

کے نام سے

میرے تانہ فراہم دستور اور سپرنٹ انڈر سٹیٹ کوٹنگ کے تحت میری طرف سے فراہم شدہ اس میں سب سے پہلے کوئی بھی چیز  
 متعلقہ نہیں ہے۔ رقم 7536503-157600 بلوچستان کے نام سے فراہم کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی کاپی کوئی بھی  
 سائنس اور کوٹنگ کے تحت ہے۔ 2 ماہ پہلے کوٹنگ کے تحت فراہم کی گئی تھی۔ کوٹنگ کے تحت فراہم کی گئی تھی۔  
 کوٹنگ کے تحت فراہم کی گئی تھی۔ کوٹنگ کے تحت فراہم کی گئی تھی۔ کوٹنگ کے تحت فراہم کی گئی تھی۔  
 کوٹنگ کے تحت فراہم کی گئی تھی۔ کوٹنگ کے تحت فراہم کی گئی تھی۔ کوٹنگ کے تحت فراہم کی گئی تھی۔  
 کوٹنگ کے تحت فراہم کی گئی تھی۔ کوٹنگ کے تحت فراہم کی گئی تھی۔ کوٹنگ کے تحت فراہم کی گئی تھی۔  
 کوٹنگ کے تحت فراہم کی گئی تھی۔ کوٹنگ کے تحت فراہم کی گئی تھی۔ کوٹنگ کے تحت فراہم کی گئی تھی۔  
 کوٹنگ کے تحت فراہم کی گئی تھی۔ کوٹنگ کے تحت فراہم کی گئی تھی۔ کوٹنگ کے تحت فراہم کی گئی تھی۔  
 کوٹنگ کے تحت فراہم کی گئی تھی۔ کوٹنگ کے تحت فراہم کی گئی تھی۔ کوٹنگ کے تحت فراہم کی گئی تھی۔  
 کوٹنگ کے تحت فراہم کی گئی تھی۔ کوٹنگ کے تحت فراہم کی گئی تھی۔ کوٹنگ کے تحت فراہم کی گئی تھی۔

*(Handwritten mark)*

NOPIK PSL/10/177  
 3/11/2021

Khairul Bisher  
 0345-2856053

20/7  
 23/6  
 8/7  
 3/11  
 5/11  
 20/7

رہنما  
 عہدہ  
 اطلاع کے لیے اطلاع دہندہ کا دستخط ہوگا یا اس کی مہر یا نشان لگایا جائے گا۔ پورا دفتر تحریر کنندہ ابتدائی اطلاع کا دستخط بطور تصدیق ہوگا۔ حروف الف یا ب سرخ روشنائی سے بالفاظ  
 ایک لزم یا مشہور علی الترتیب واسطے باشندگان علاقہ غیر یا وسط ایشیا یا افغانستان جہاں موزوں ہوں لکھنا چاہئے۔

55


OFFICE OF THE  
DISTRICT POLICE OFFICER,  
UPPER DIR  
\*\*\*\*\*

B-6

ORDER


This order is passed on the Departmental Enquiry conducted against Constable Khair Ul Bashir No. 1657 in Police Lines, involved in case FIR No. 403 dated 03.11.2021 u/s 452/458/419/420 PPC PS Wari. This act of the defaulter official amounts to gross misconduct, therefore he was issued Charge Sheet with Statement of allegations and Mr. Ghulam Sadiq, SDPO Kohistan was appointed as Enquiry Officer. During the course of departmental enquiry the Enquiry Officer recorded the statements of the defaulter official. The Enquiry Officer submitted in his finding report that he is guilty of the charges leveled against him and the allegations were proved behind any shadow of doubt. On perusal of the finding report, the defaulter official was issued a Final Show Cause Notice vide No. 1837/SB, dated 30.11.2021 and reply to the same was perused and found unsatisfactory, therefore, he was called in Orderly Room and he was also heard in person, but the defaulter official could not produce any plausible evidence in his defense or satisfy the undersigned in this regard. Keeping in view of the recommendation of Enquiry Officer and materials on record, I Atiq Ullah Khan Wazir, District Police Officer, Dir Upper (competent authority) in exercise of powers vested under Police Rules, 1975 amended 2014 and (Police Act 2017) hereby dismiss the defaulter official Constable Khair Ul Bashir No. 1657 from Police service with immediate effect.

Order announced.

  
District Police Officer  
Dir Upper.


OB No. 871

Dated:- 30/12/ /2021.

  
Mr. Ghulam Sadiq



7



100 Rupees

بیت حکیم جی بی نقیب

EXP A  
JAN 11 2021  
10-11-21

منہ کان مسلم جی زویہ صدقہ میں شہداء کا اور دیگر درجہ  
 صدقہ دہرا نے برائے بین تیار ہیں نہ کوئی صدقہ لغت 403  
 نوم 11/21 3-2-149-418-452 رقم تھا داگری میر صاحب  
 420  
 منہم ضیاء اللہ سے دہ صدقہ غنی سنگہ جگہ کائنات لا مشیرہ دہ تیسر  
 عمارت دہرا اور لا تھی۔ منہم صدقہ بیگم تیار تہ رہیں نہ شہرا  
 تہ تو سوائے ضیاء اللہ اور لا تھی۔ اور میں بر صاحب  
 منہم منہم صدقہ باز کا میں صاحبی ہوں۔ منہم تہ اعداد  
 صدقہ منہم تو میری آرب کا منہم تو بہر خانت رقم کر میں۔  
 کو مجھ کے اسم افقی تہ ہے۔ اور میں تہ دہرا لا تھی  
 تہ شہداء میں آتھی ہے


10/11/21



ATTESTED

بیت حکیم جی بی نقیب

Mr. [Signature]



بیت حکیم جی بی نقیب  
15702-7856503-9

بیان طرف محمد مستقیم ہوا  
علم لیا ہی زورم صدرم صیل مکہ  
مکہ کا دورہ تحصیل واری دہر مال  
ہر طرف بیان کرتی ہوں کہ میں نے

حوالہ FIR نمبر ی 403 قریب 03/11/21

ممبر 420, 452, 418, 419 حقانہ واری

میں میں سے طرف طلسم صبی ضم  
انتہی ہر د کو میری کی تھی جو نہ تھی

نے تھی ان علاقہ کی کاوشوں سے راضی

نامہ کتاب اور طلسم والا کو میں نے  
سبیل اللہ معاف کیا ہے اور طلسم

د کو میری نہیں کرنا چاہی ہوں ہاں

عبداللہ صفور طلسم مزکورہ کو میری کہ

ضمانت نہ رہا کہ، لڑھی کوئی امتیاز

نہیں ہے، میں میں اسکا نہیں ضم

کرنا چاہی ہوں۔ میں یہی سبیل

بیان ہے راضی نامہ EXP A

تسلیم کرنا چاہی ہوں اور میں

تسلیم کرنا چاہی ہوں اور میں

علم لیا ہی زورم صدرم صیل مکہ

تسلیم کرنا چاہی ہوں اور میں

تسلیم کرنا چاہی ہوں اور میں

تسلیم کرنا چاہی ہوں اور میں

تسلیم کرنا چاہی ہوں اور میں

تسلیم کرنا چاہی ہوں اور میں

تسلیم کرنا چاہی ہوں اور میں

تسلیم کرنا چاہی ہوں اور میں

تسلیم کرنا چاہی ہوں اور میں

تسلیم کرنا چاہی ہوں اور میں

مکرمہ زورم صدرم صیل مکہ

عطاوار میں تھا  
تسلیم کرنا چاہی ہوں اور میں  
تسلیم کرنا چاہی ہوں اور میں

10-11-21

Tajmouli  
Shahin  
10/11/21

تسلیم کرنا چاہی ہوں اور میں

مفتی صاحب ریجنل پولیس آفیسر گلگت و بلتستان سوات

D-8

گلگت و بلتستان پولیس ڈیپارٹمنٹ  
30.12.2021

مفتی صاحب ریجنل پولیس آفیسر گلگت و بلتستان سوات  
1657

میرا میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا کہ دوران کاروبار میرے گھر پر  
میرے گھر پر گھونٹی دھو داری کرنے پر خلاف FIR درج کیا گیا تھا جس میں  
کیا اور میرے رشتہ داروں کی اصل حالت تھی۔ جنہوں نے مجھے سے یہ بتایا کہ  
حافظ نے گھونٹے قورم میں ملوث کیا۔ قورم میں قورم میں پولیس نے مجھے گرفتار

کرنے کے بعد میرے گھر پر لگاوا گیا اور وہاں سے اسے گھونٹے قورم کی بنیاد پر

نہروں سے پہنچا دیا گیا۔ والے اور نذر کردہ یا ان کے گھر پر میرے رشتہ داروں  
میں سے سزا دیا گیا اور اس کی بنیاد پر میرے گھر پر لگا دیا گیا۔ میرے خلاف بنایا گیا قورم

میرا میرے گھر اور میری زمین ہے۔ جس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرا

تعلق کسی بنیادی شریف اور زید کے ساتھ ہے۔ اور اسے گورنہ ماوا کے پولیس  
سٹیشن - میر میں نذر کردہ (میرا) کے ساتھ ساتھ رہا ہوگا اور وہ - ڈی ڈی اور صاحب  
نے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میرے گھر کے میرے ساتھ نہ رہتا ہے۔

گلگت و بلتستان سے اس کے مسائل کو توڑنے کے لیے اس کے اہلکار  
صدر ریجنل پولیس آفیسر

Khairul Bashat  
20/12/2021

صدر ریجنل پولیس آفیسر  
1657

M. J.



E-9

**OFFICE OF THE  
REGIONAL POLICE OFFICER, MALAKAND  
AT SAIDU SHARIF SWAT.**  
*Ph: 0946-9240388 & Fax No. 0946-9240390*  
*Email: cbmalakandregion@gmail.com*

**ORDER**

This order will dispose of appeal of Ex-Constable Khair-ul-Bashar No.1657 of Dir Upper District for re-instatement in service, who is dismissed from service by the then District Police Officer, Upper Dir vide OB No.871, dated 30-12-2021.

Brief facts of the case are that Ex-Constable Khair-ul-Bashar No.1657 while posted at Police Lines was found involved in case vide FIR No.403, dated 03-11-2021 U/S 452,458,419,420 PPC PS Wari, suspended by the then District Police Officer, Dir Upper vide OB No.769, dated 09-11-2021 and closed to Police Lines. The above act of the defaulter Ex-Constable was amounts to gross misconduct, therefore the Charge Sheet coupled with statement of allegation issued to him and SDPO Kohistan was appointed as Enquiry Officer.

During the course of departmental enquiry, the Enquiry Officer recorded statement of the defaulter Ex-official. The Enquiry Officer submitted in his finding report that he is guilty of the charges leveled against him and the allegations were proved beyond any shadow of doubt. On perusal of the finding report, the defaulter Ex-Official/applicant was issued a Final Show Cause Notice vide No.1837/SB, dated 30-11-2021, and reply to the same was perused by the then District Police Officer, Dir Upper and found unsatisfactory. Therefore, he was called in orderly room and heard him in person, but he could not produce any plausible evidence in his self-defense in this regard. Keeping in view of the recommendation of the E-O and material of the record, subsequently the then District Police Officer, Dir Upper being a competent authority and in exercise of power vested under Police Efficiency and disciplinary rules 1975 amended 2014 dismissed the defaulter official from service with immediate effect vide OB No.871, dated 30-12-2021 in this regard the following grounds were also observed:-

1. The case of the defaulter is heinous.
2. The case is pending in trial court and has not been decided till now. The defaulter is a garble (Double-dealer) and directly charged in commenting lurking house-trespass by night
3. The defaulter has been arrested from inside the house of the complainant.
4. The matter is grievous which is not only affects as individual but also spoiled the whole society and the department.
5. The defaulter caused a bad impact upon society and upon the department.

Moreover, in this application the applicant has misrepresenting that "the case against him has been dismissed by the court vide dated 06/11/2021" while the judgment of the concerned Court on the above reference/dated are as under:-

"In the light of above discussion, I am not inclined to release the accused' petitioner on bail; hence, the instant bail application is hereby dismissed".

He was called in Orderly Room on 09-03-2022 and heard him in person, but he did not produced any cogent reason to defend the charges leveled against him, therefore, his appeal is hereby rejected.

  
Regional Police Officer,  
Malakand Region Swat

No. 3603 /JE,  
Dated 30-3-2022

\*\*\*\*\*  
Copy for information and necessary action to the District Police Officer, Dir Upper with reference to his office Memo: No.485/EB, dated 31-01-2022. His Service Roll and Fuji Missal containing enquiry file received with your memo: under reference are returned herewith for record in your office.

Encls: S. Roll  
F. Missal



بمقام صدر ای جی ایس ضلع راجستھان

F10

رجم درگاہ برائے مجال نوسری

صہ بحالی وجودہ نوسری کی جانب سے۔ جس میں کل ایس ایس میں پورے سال 1657 میں  
 میں ایک پرائیویٹ سرکاری اور کھانا۔ پورے سال میں ایک پرائیویٹ سرکاری  
 میں صرف کھانے کے لئے صرف 418 روپے کی رقم صرف 340 روپے  
 میں پرائیویٹ کے لئے تھی۔ یہ سب سبھی کی خاطر تھی جو  
 حق میں ملتا تھا۔ پورے سال میں صرف 418 روپے کی رقم صرف 340 روپے  
 اور بعد ازاں ڈی پی او صاحب نے اس کے لئے ایک نوٹس لکھا جس سے مراد  
 کیا۔ ضلع ایس ایس۔ مذکورہ بالا نوٹس میں صرف پرائیویٹ کے لئے صرف  
 روپے لکھا اور اس کے بعد میں بھی اس کی ترقی ہوئی۔ صرف پرائیویٹ  
 صرف سرکاری کے لئے اور پرائیویٹ کے لئے۔ جس میں صرف پرائیویٹ کے لئے  
 تعلق ایک پرائیویٹ شریف اور پرائیویٹ کے لئے۔ اور میں نے پرائیویٹ کے لئے  
 میں اور نوسری کے لئے ایک نوٹس لکھا۔ ضلع ڈی پی او صاحب نے صرف  
 صرف ایک نوٹس لکھا جس سے مراد صرف پرائیویٹ کے لئے صرف RPO صاحب  
 کو حکم دیا گیا کہ وہ صرف 2022-23 کو خارج کر دیا گیا۔ صرف  
 کا نوٹس لکھا گیا ہے اور پورے سال میں صرف پرائیویٹ کے لئے صرف

گذاشتہ کی جانب سے۔ اس کے لئے ایک نوٹس لکھا گیا ہے اور پورے سال میں صرف  
 شکور فریڈے میں اور پورے سال میں صرف پرائیویٹ کے لئے صرف

26/04/2022

Chairul Bashir  
 صدر ای جی ایس ضلع راجستھان  
 1657



No. 6857-58/E, dated Saidu Sharif the 29/6/2020

9-10

To: The Inspector General of Police,  
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

Subject: REVISION PETITION

Memorandum

Kindly refer to CPO, Peshawar Memo No. 1054/22, dated 23/05/2022.

The requisite comments as intimated by District Police Officer, Dir Upper vide his office Memo: No. 2386/EB, dated 22/06/2022 are submitted as under:-

Brief facts of the case are that appellant Ex-Constable Khair Ul Bashar No. 1657 while posted in Police Lines was found involved in case FIR No. 403, dated 03/11/2021 u/s 452/418/419/420 PPC PS Wari. Therefore, he was suspended vide OB No. 769, dated 09/11/2021.

The above act of the Ex-Constable was amounts to gross misconduct, therefore Charge Sheet coupled with statement of allegation were served upon him and SDPO Kohistan was appointed as Enquiry Officer. During the course of departmental enquiry, the Enquiry Officer recorded his statement and submitted his finding wherein he stated that he is guilty of the charges level against him and the allegation were proved beyond any shadow of doubt. On the perusal of finding report he was issued Final Show Cause Notice No. 1837/SB, dated 30/11/2021. The reply of the same was perused by the then SDPO Dir Upper and unsatisfactory. Therefore, he was called in orderly room and heard him in person, but could not produce any plausible evidence in his defense to the competent authority in this regard. Keeping in view of the recommendation of the Enquiry Officer and other materials on the record, subsequently, he was dismissed from service with immediate effect vide OB No. 871, dated 30/12/2021. In this regard the following grounds were also observed:-

1. The case of the defaulter is heinous.
2. The case is under trial in the court and has not been decided.
3. The defaulter is a garble and directly charged in commenting lurking house-trespass by night.
4. The defaulter has been arrested from inside the house of the complainant.
5. The act is grievous which are not only effects as individual but also effect badly the whole society and the department.
6. The defaulter caused a bad name for police department.

Later on he was submitted an application before this office for re-instatement into service. Which was examined and rejected vide this office order Endst: No. 3603/E, dated 30/03/2022.

According to Inspector Legal, Dir Upper the above named official has not instituted any service appeal in service tribunal so far.

His Service Roll, Fuji Missal and enquiry file is submitted herewith as desired and returned to this office when no longer required for record of office concerned please.

Enclosed: S-Roll + F. Missal  
Enquiry file

\*\*\*\*\*

Copy to District Police Officer, Dir Lower with reference to his office memo: No. quoted above.

ATTESTED

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
Regional Police Officer,  
Malakand, at Saidu Sharif Swat

*[Handwritten Signature]*

2/11/22

"A"

**KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.**

JUDICIAL COMPLEX (OLD), KHYBER ROAD,  
PESHAWAR.

*Regd*

*TB Swat*

No.

*1161*

*22*

APPEAL No..... of 20

*Khair ul Bashay*

Appellant/Petitioner

Versus

*IGP Pesh*

RESPONDENT(S)

*Resp No 3*

*District Police officer*

Notice to Appellant/Petitioner

*DISTT DIR UPPER*

Take notice that your appeal has been fixed for Preliminary hearing, replication/affidavit/counter affidavit/record/arguments/order before this Tribunal on *7-11-2022* at *9.00 AM*

You may, therefore, appear before the Tribunal on the said date and at the said place either personally or through an advocate for presentation of your case, failing which your appeal shall be liable to be dismissed in default.

*at camp court*

*Swat*

Registrar,  
Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal,  
Peshawar.

"A"

**KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.**  
JUDICIAL COMPLEX (OLD), KHYBER ROAD,  
PESHAWAR.

Regd  
No.

TB Swat

APPEAL No.....1161..... of 20 20

Khair ul Bashir

Appellant/Petitioner

Versus

IGP Peshawar


RESPONDENT(S)

Notice to Appellant/Petitioner  
Resp No 2 Regional Police officer  
Malakand Region  
Saidu Sharif Swat

Take notice that your appeal has been fixed for Preliminary hearing, replication, affidavit/counter affidavit/record/arguments/order before this Tribunal on 7-11-22 at 9:00 AM

You may, therefore, appear before the Tribunal on the said date and at the said place either personally or through an advocate for presentation of your case, failing which your appeal shall be liable to be dismissed in default.

at camp court  
Swat

  
Registrar,  
Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal,  
Peshawar.